

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

قرآن مجید

مست ترجمہ
عالیجناب حضرت مولانا محمد علی صاحب
مؤلف
بیان القرآن انگریزی ترجمہ القرآن مجید

۱۸

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ

اِنَّا هَا ۱۱۸

رُكُوْعًا ۶

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مومن یقیناً کامیاب ہیں
جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝۱

اور جو لغو سے منہ پھیرنے والے ہیں

وَالَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝۲

اور جو پاکیزگی کے لیے کام کرنے والے ہیں

وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللّٰغُوْ مُعْرِضُوْنَ ۝۳

اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

وَالَّذِیْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَعِلُوْنَ ۝۴

مگر اپنی بیویوں سے یا ان سے جن کے ان کے داہنے ہاتھ مالک

وَالَّذِیْنَ هُمْ لِقُرُوْبِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۝۵

ہوئے تو وہ ملامت کیے گئے نہیں

اِلَّا عَلٰی اَسْرٍ وَّ اِجْمٰہٍ اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُهُمْ

لیکن جو اس سے آگے نکلنا چاہیں وہ حد سے بڑھنے والے

فَاِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُوْمِیْنَ ۝۶

ہیں۔

فَمَنْ اَبْتَغٰی وَّرَآءَ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ

اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔

هُمُ الْعٰدُوْنَ ۝۷

اور جو اپنی نساؤں کی محافظت کرتے ہیں

وَالَّذِیْنَ هُمْ لِاٰمٰنَتِهِمْ وَعٰہِدِهِمْ رٰعُوْنَ ۝۸

یہی وارث ہیں۔

وَالَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی صَلٰوةِهِمْ یَحٰفِظُوْنَ ۝۹

جو فردوس کو ورثہ میں لیتے ہیں، وہ اسی میں رہیں

اُولٰٓئِکَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ ۝۱۰

گے۔

الَّذِیْنَ یَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ

اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے

فِیْهَا خَلِدُوْنَ ۝۱۱

پیدا کیا

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ

پھر ہم نے اسے ایک مضبوط ٹھیرنے کی جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔

مِّنْ طِیْنٍ ۝۱۲

پھر ہم نے نطفہ کو لو تھڑا بنایا اور لو تھڑے کو گوشت

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِیْ قَرَارٍ مَّکِیْنٍ ۝۱۳

پھر ہم نے نطفہ کو لو تھڑا بنایا اور لو تھڑے کو گوشت

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا

کا ٹکڑا بنایا۔ اور گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں بنائیں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ پھر ہم نے اسے ایک اور پیدائش دیکھا اٹھا کھا کر کیا پس اللہ بابرکت ہے (جو) سب بنانے والوں سے بہتر ہے)

پھر تم اس کے بعد یقیناً مرنے والے ہو۔
پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔

اور ہم نے تمہارے اوپر سات رستے بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں

اور ہم نے بادل سے ایک اندازہ سے پانی اتارا۔ پھر اسے زمین میں ٹھیرایا، اور ہم اُسے اٹھالے جانے پر بھی قادر ہیں

پھر ہم نے اس کے ساتھ تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ اُگائے، ان میں تمہارے لیے بہت پھل ہیں، اور ان سے تم کھاتے ہو۔

اور ایک درخت جو سینا پہاڑ سے نکلتا ہے وہ روغن اؤد کھانیوالوں کے لیے سالن لیے ہوئے نکلتا ہے

اور تمہارے لیے چار پالیوں میں بھی عبرت ہے۔ ہم تمہیں اس سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں اور ان سے تم کھاتے ہو۔

اور ان پر اور ان کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔

اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، سو اس نے

الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ طَبَّرَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿۱۵﴾

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿۱۶﴾
ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿۱۷﴾
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ﴿۱۸﴾
وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿۱۹﴾

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ ﴿۲۰﴾ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿۲۱﴾

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ تَحْيِيلٍ ﴿۲۲﴾ وَأَعْنَابٍ ﴿۲۳﴾ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ ﴿۲۴﴾ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۲۵﴾

وَشَجَرَةٍ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلِينَ ﴿۲۶﴾

وَإِن لَّكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّسُقْيَاكُمْ ﴿۲۷﴾ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ﴿۲۸﴾ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۲۹﴾

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿۳۰﴾
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ ۗ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۷﴾

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ لَا يُرِيدُ أَنْ
يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ
مَلَائِكَةً ۗ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا
الْأَوَّلِينَ ﴿۳۸﴾

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَمَا تَبْصُرُوا
بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۳۹﴾

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بَدُؤُنِ ﴿۴۰﴾

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَكَ
بِأَعْيُنِنَا وَوْحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا
وَفَارَ التَّوْهُمُ ۗ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ
كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ
سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۗ وَلَا تَحْطَبْنِي
فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۴۱﴾
فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى
الْفُلِكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّسَنَا
مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۴۲﴾

وَقُلْ رَبِّ انصُرْنِي مُنْزِلًا مُبْرَكًا
وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿۴۳﴾

کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے
سوائے کوئی معبود نہیں تو کیا تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے۔

تو ان لوگوں کے سرداروں نے جو اس کی قوم میں سے کافر ہوئے
کہا یہ صرف تم ہی جیسا ایک بشر ہے چاہتا ہے کہ تم پر
بڑائی حاصل کرے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار
دیتا۔ ہم نے یہ پہلے اپنے باپ دادوں میں
نہیں سنا

وہ صرف ایک ایسا شخص ہے جسے جنون ہے تو ایک
وقت تک اس کے بارے میں انتظار کرو۔

فرخ نے کہا میرے مجھے مدد کے لیے کہ انھوں نے مجھے جھٹلایا۔

پس ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے
اور ہماری وحی سے کشتی بنا۔ پھر جب ہمارا حکم آئے اور زمین
پر پانی ہجوش ہارے تو اس میں ہر ضرورت کی شے
کے زرمادہ دو دو لیلے۔ اور اپنے اہل کو بھی سوائے
اس کے جس کے متعلق ان میں سے پہلے حکم ہو چکا اور ان کے متعلق مجھ
سے خطاب کرنا جو ظالم ہیں وہ غرق کیے جائیں گے۔

پس جب تو اور جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر بیٹھ جاؤ، تو کہہ
سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں ظالم
قوم سے نجات دی

اور کہہ اے میرے رب مجھے برکت والا اتارنا اتار لو
اور تو سب اتارنے والوں سے بہتر ہے

یقیناً اس میں نشان ہیں اور ہم آزمائش کرتے رہتے ہیں
پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور نسل پیدا کی۔

پس ان میں انہی میں سے رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو
تمہارے لیے اس کے سوائے کوئی مبدود نہیں، تو کیا تم
تقوے اختیار نہیں کرتے

اور اس کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے اور
آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے اور ہم نے انہیں دنیا کی
زندگی میں آسودگی دی تھی کہنے لگے یہ کچھ نہیں مگر تم جیسا
ایک انسان ہے اسی سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور اسی سے
پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔

اور اگر تم اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت کر دو گے تو
اس حال میں تم یقیناً نقصان اٹھانے والے ہو گے۔
کیا وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں
ہو جاؤ گے تو تم دھڑکنے لگے جاؤ گے۔

بہت ہی دور (از غفل) بات ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے
یہ کچھ نہیں مگر صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے ہیں
اور زندہ ہوتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے
وہ کچھ نہیں مگر صرف ایک شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹا فرما لیا
ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔

رسول نے کہا میری رب میری مدد کر اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔
فرمایا تھوڑی ہی دیر میں یقیناً پشیمان ہوں گے

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّرَأْسِ الْكٰفِرِيْنَ ۝۳۳
ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ۝۳۴
فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنْ
اَعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۝۳۵
اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۝۳۶

وَقَالَ الْمَلَاۗءِ مِنْ قَوْمِهٖ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا
وَكَذَّبُوْۤا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ
مِمَّا تَشْرَبُوْنَ ۝۳۷
وَلٰكِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ
اِذَا الْخُسْرٰوْنَ ۝۳۸

اَيَعِدْكُمْ اَنْكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ
ثُرٰٓبًا وَّعِظٰمًا اَنْكُمْ مَّخْرَجُوْنَ ۝۳۹
هِيَ هٰتَ هٰٓيَهَاتَ لِمَا تُوعَدُوْنَ ۝۴۰
اِنَّ هٰٓيَ اِلَّا حَيٰٓاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيٰٓ
وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝۴۱

اِنَّ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ اٰتٰنَا عَلٰى اللّٰهِ
كٰذِبًا وَّ مَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝۴۲
قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِيْۤ اِمَّا كَذَّبُوْنَ ۝۴۳
قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لِّيُصْبِحَنَّ نٰدِيْمِيْنَ ۝۴۴

تو ایک ہولناک آواز نے انھیں حتیٰ کے ساتھ لپکڑا سو ہم نے انھیں گھوڑا
گرٹ کر دیساں ظالم لوگوں کے لیے دُوری ہے
پھر ان کے بعد ہم نے اور نسلیں پیدا کیں۔

کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے آگے جاسکتی ہو اور پیچھے کسی سے
پھر ہم نے اپنے رسول پلے در پلے بھیجے جب کبھی کسی قوم کے پاس
اس کا رسول آیا انھوں نے اسے جھٹلایا تو ہم بھی ایک کے پیچھے
دوسرے کو رہلاکت میں پہنچاتے رہے اور ہم نے انھیں کمانیاں بنا دیا
پس ان لوگوں کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے

پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور
کھلی سند کے ساتھ بھیجا۔

فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، مگر انھوں نے تکبر کیا اور
وہ سرکش لوگ تھے۔

تو انھوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دونوں پر ایمان لائیں اور ان
کی قوم (کے لوگ) ہمارے خدا بن گئے ہیں

سو انھوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاکت شدت تو ان میں سے ہو گئے۔
اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تاکہ وہ ہدایت
پائیں۔

اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشان
بنایا ہے اور ان دونوں کو ایک بلند جگہ پر پناہ دی جو
ہموار اور چشموں والی تھی

اے رسولو! پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اچھے

فَاخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ
عُمَّاتٍ قَبْعًا اَللِّقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۴۱﴾

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قُرُوْنَا اٰخِرِيْنَ ﴿۴۲﴾
مَا تَسْبِيْحٍ مِنْۢ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ﴿۴۳﴾
ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَ
اُمَّةٌ رَّسُوْلًا كَذَّبُوْهُ فَاتَّبَعْنَاۢ بَعْضَهُمْ
بَعْضًا وَّجَعَلْنَاهُمْ اٰحَادِيْثَ قَبْعًا اَللِّقَوْمِ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۴۴﴾

ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَّ اٰخَاهُ هٰرُوْنَ
بِآيٰتِنَا وَّ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۴۵﴾
اِلٰى فِرْعَوْنَ وَّ مَلَأِِيْهِ فَاسْتَكْبَرُوْا
وَكَانُوْا قَوْمًا عٰلِيْنَ ﴿۴۶﴾
فَقَالُوْا اَنْتُمْ مِّنْ لِّبَشَرِيْنَ مِثْلِنَا وَّ
قَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ ﴿۴۷﴾

كَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴿۴۸﴾
وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى الْكِتٰبَ
لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿۴۹﴾

وَ جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَّ اُمَّةً اٰیَةً
وَ اُوَيْنَهُمَا اِلٰى رَبْوَةٍ ذٰتِ قَرَارٍ
وَ مَعِيْنٍ ﴿۵۰﴾

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ

عمل کرو۔ میں اسے جو تم کرنے ہو جانتا ہوں اور کہ یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں سو میرا تقویٰ کرو۔

پھر انہوں نے اپنے دین کو آپس میں قطع کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سب گردہ اس پر جو ان کے پاس ہے خوش ہیں سو انہیں اپنی جہالت میں ایک وقت تک پڑا رہنے دے۔ کیا یہ خیال کرتے ہیں یہ جو ہم ان کو مال اور بیٹوں سے مددے رہے ہیں

تو ہم ان کو بھلائی پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں بلکہ وہ محسوس نہیں کرتے جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں

اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ کہ وہ دیتے ہیں حالانکہ ان کے دل خوف سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہ ان کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں

اور ہم کسی شخص پر کچھ بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت کے مطابق اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ بتا دیتی ہے اور ان پر تسلیم نہیں کیا جائے گا

بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں ،

وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۵۳﴾
وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿۵۴﴾

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۵۵﴾
فَذَرَهُمْ فِي غَسَرَتِيهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۵۶﴾
أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُسِّدُهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿۵۷﴾

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۸﴾
إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۵۹﴾

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۶۰﴾
وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۶۱﴾
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۶۲﴾
أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۶۳﴾

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَ لَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۶۴﴾

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا

وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿۳۷﴾

حَتَّىٰ إِذَا آخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ﴿۳۸﴾

لَا تَجْعَرُوا الْيَوْمَ نَافِلًا مِنَّا لَا تَنْصُرُونَ ﴿۳۹﴾

قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُنصَلِي عَلَيْكُمْ فَلَنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ أَنْكُصُونَ ﴿۴۰﴾

مُسْتَكْبِرِينَ ۗ بِهِ سِيرًا لَّهُمْ جُرُؤُونَ ﴿۴۱﴾

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۴۲﴾

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۴۳﴾

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿۴۴﴾

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَهُمْ بِنُذُرِهِمْ فَهَمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۴۵﴾

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرَجًا فَخَرَجَ رَبُّكَ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ الرِّزْقَيْنِ ﴿۴۶﴾

اور اس کے سواٹے ان کے اور عمل بھی ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں

یہاں تک کہ جب ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ چلانے لگیں گے

آج مت چلاؤ، تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں دی جائے گی۔

میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی اڑیوں پر اٹلے پھر جاتے تھے

اکڑتے ہوئے اسے مشغلہ بناتے ہوئے بکواس کرتے تھے تو کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا بلکہ ان کے پاس وہ بات آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس نہ آئی تھی

کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا اس لیے وہ اس سے منکر ہیں

کیا کہتے ہیں اسے جنون ہے بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں

اور اگر حق ان کی خواہش کے مطابق ہوتا تو آسمان اور زمین اور جو کوئی ان کے اندر ہیں بگڑ جاتے بلکہ ہم ان کے پاس ہیں

کی بڑائی (کا سامان) لائے ہیں سو وہ اپنی بڑائی سے منہ پھیرنے والے ہیں

کیا تو ان سے کچھ صلہ مانگتا ہے تو تیرے رب کا صلہ بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔

اور یقیناً تو انھیں سیدھے رستے کی طرف بلاتا ہے۔

اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، رستے سے ہٹ رہے ہیں

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو انھیں تکلیف ہے اسے دُور کریں تو وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہوئے اصرار کریں اور ہم نے انھیں عذاب میں پکڑا، مگر وہ اپنے رب کے آگے نہ گئے اور یہ عاجزی کرتے ہی نہیں

یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے پھر ناگہاں وہ اس میں مایوس ہو جائیں گے۔

اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے بہت ہی کم تم شکر کرتے ہو۔

اور وہی ہے جو تمہیں زمین کے اندر وجود میں لاتا ہے اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے

اور وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور رات اور دن کا اختلاف اسی کے اختیار کا ہے تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔

بلکہ اسی کی طرح کہتے ہیں جو پہلوں نے کہا۔

کہتے ہیں کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔

ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو پہلے سے یہی وعدہ دیا جاتا رہا ہے یہ کچھ نہیں مگر پہلوں کی کہانیاں ہیں۔

کہہ زمین اور جو اس میں ہیں وہ کس کے لیے ہیں

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ
بِطَائِفٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۳۷﴾

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ﴿۳۸﴾

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ
ضُرِّ الْجُؤَانِ لَطَغَّيْنَا فِيهِمْ يَوْمَهُمْ ﴿۳۹﴾

وَلَقَدْ أَخَذْنَا لَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا
اسْتَكَاوُوا إِلَيْهِمْ وَمَا يَنْصَرِعُونَ ﴿۴۰﴾

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا ذَا عَذَابٍ
شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۴۱﴾

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۴۲﴾

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ﴿۴۳﴾

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ
الْيَلِّ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۴۴﴾

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۴۵﴾

قَالُوا إِذَا مَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا
ءِ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿۴۶﴾

لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ
قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۴۷﴾

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا

اگر تم جانتے ہو۔

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۸﴾

کیسے گے اللہ کے لیے کہ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔
کہ ساتوں آسمانوں کا رب اور بڑے عرش کا
رب کون ہے۔

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۸۹﴾
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۹۰﴾

کیسے گے اللہ کے لیے ہی ہے کہ تو کیا تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے۔
کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے
اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل پناہ نہیں ملتی
اگر تم جانتے ہو۔

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۹۱﴾
قُلْ مَنْ مَنَّنَ بِيَدِهِ مَلَكَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ
وَ هُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۲﴾

کیسے گے اللہ کے لیے ہی ہے کہ کچھ تھیں کہاں سے دھوکا لگتا ہے
بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں
اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوست
موجود ہے اس صورت میں ہر ایک محمود اسے لیجاتا جو اس نے
پیدا کیا ہوتا اور ان میں سے ایک دوسرے پر بڑائی حاصل کرنے میں
لگارتھا، اللہ اس سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں
غیب اور حاضر کا جاننے والا، سو وہ اس سے بلند ہے
جو وہ شریک بناتے ہیں۔

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿۹۳﴾
بَلِ الْيَهُودُ بِالْحَقِّ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۹۴﴾
مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلِيٍّ وَ مَا كَانَ
مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذَىٰ آلِهِ
بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَّأَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۹۵﴾
عَلِيمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَتَعَلٰی
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۹۶﴾

کہ میرے رب اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا انھیں وعدہ دیا جاتا ہے۔
میرے رب تو مجھے ظالم لوگوں میں نہ رکھو

قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿۹۷﴾
رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۹۸﴾

اور ہم اس پر کہ تجھے وہ دکھائیں جس کا انھیں وعدہ دیتے ہیں قادر ہیں۔
بدی کو اس ربات کے ساتھ دور کر جو بہت اچھی ہے۔ ہم
خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں

وَ إِنَّا عَلَىٰ أَنْ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿۹۹﴾
إِذْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ط
نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿۱۰۰﴾

وَقُلْ شَرِبْتُ مِنْ عَمَلِكِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿۱۶﴾

وَاعْوِذْ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿۱۷﴾
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ
رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿۱۸﴾

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ
كَلَّا لَإِنهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ
وَرَائِهِمْ بَرَآءَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۹﴾
فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَكُلَا أَنْسَابَ
بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿۲۰﴾
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۲۱﴾

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ
خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۲۲﴾
تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿۲۳﴾
أَلَمْ تَكُنْ أَلَيْسَ تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فُكْرَهُمْ
فِيهَا تَكِيدُونَ ﴿۲۴﴾

قَالُوا أَسْرَبْنَا عَلَيْكَ شِفُونَنَا
وَكَتَبْنَا قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿۲۵﴾

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا
فَنَاظِمُونَ ﴿۲۶﴾

اور کہ میرے رب میں شیطانوں کی عیب جوٹی سے تیری
پناہ مانگتا ہوں

اور میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے سامنے آئیں۔
تو جب ان میں سے ایک کو موت آتی ہے کہتا ہے میرے
رب مجھے لوٹاؤ

تا کہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں اچھا عمل کروں۔ ہرگز
نہیں وہ ایک بات ہے جسے وہ کہے گا اور ان کے سامنے
ایک روک ہے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں

سو جب صور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان میں رشتہ داریاں
نہیں گی اور نہ ایک دوسرے سے (حال) دریافت کریں گے
پس جس کے اچھے عمل بھاری ہوں گے تو وہی
کامیاب ہوں گے۔

اور جس کے اچھے عمل ہلکے ہوں گے پس وہی ہیں جنہوں نے اپنے
آپ کو گھائے میں رکھا، جہنم میں رہیں گے۔

آگ ان کے نونوں کو ٹھیلے گی اور وہ اس میں بے منہ بنا ہوئے ہوں گے۔
کیا میری آیتیں تم پر نہ پڑھی جاتی تھیں، تو تم انہیں جھٹلاتے
تھے۔

کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی
اور ہم گمراہ قوم تھے۔

اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے پھر اگر ہم دوبارہ یہ کام
کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔

قَالَ احْسَبُوا فِيهَا وَلَا تُكْفِرُونَ ﴿۳۸﴾
 إِنَّهُ كَانَ قَرِيْبٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ
 رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ
 خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ ﴿۳۹﴾

تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔

فَاتَّخَذَتْهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ
 ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿۴۰﴾
 إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا
 أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ ﴿۴۱﴾

تو تم نے اُن سے تمسخر کیا یہاں تک کہ گویا انھوں نے تمہیں میرا

ذکر بھلا دیا اور تم اُن پر منہی اڑاتے تھے

آج میں نے انھیں اُن کے صبر کرنے کا بدلہ دیا، کہ وہی

بامراد ہیں۔

قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ﴿۴۲﴾
 قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
 فَسَعَلِ الْعَادِيْنَ ﴿۴۳﴾

کہے گا تم کتنے برس زمین میں رہے ؟

کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کوئی حصہ رہے۔

سو گنتی کرنے والوں سے پوچھیے۔

کہے گا تم رہے تو غھوڑا ہی ، کاشش ! تم

جانتے۔

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۴۴﴾
 أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ
 إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿۴۵﴾

کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے

اور کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے ؟

قَتَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿۴۶﴾

سوالد بلند ہے بادشاہ ہے حق ہے اس کے سوائے کوئی ہجو

نہیں وہ معزز عرش کا رب ہے۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا
 بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ
 رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ ﴿۴۷﴾
 وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ

اور جو کوئی اللہ کے ساتھ دوسرے ہجو کو پکارے گا، جس کی

اس کے پاس کوئی روشن دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے

رب کے ہاں ہے۔ کافر ہی کا میاب نہیں ہوں گے۔

اور کہ میرے رب حفاظت فرما اور رحم کر اور تو سب

رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔

خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ ﴿۴۸﴾

سُورَةُ التَّوْبَةِ مَكِّيَّةٌ

الْآيَاتُ ۱۳

الْآيَاتُ ۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا
 فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ①
 الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
 تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ
 مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ②

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
 وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
 وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ③

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ
 يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
 ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ
 شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ④
 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑤
 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے
 یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور اس کے احکام کو ضروری ٹھہرایا
 اور اس میں کھلے کھلے حکم آئے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو
 زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد (کے لیے حکم یہ ہے)
 کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ، اور ان
 پر مہربانی تمہیں اللہ کے حکم کی تعمیل سے نہ روکے، اگر تم
 اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو اور چاہیے کہ
 ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت
 موجود ہو

بدکار مرد سوائے بدکار یا مشرک عورت کے کسی سے تعلق
 پیدا نہیں کرنا اور بدکار عورت کے ساتھ سوائے بدکار مرد یا مشرک
 کے کوئی تعلق پیدا نہیں کرنا اور یہ مومنوں پر حرام کیا گیا ہے
 اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں
 پھر چار گواہ نہ لائیں، تو انہیں اسی کوڑے
 لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور
 وہی نافرمان ہیں

مگر جو بعد میں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ
 بخشنے والا رحیم کرنے والا ہے۔

اور جو لوگ اپنی عورتوں پر تہمت لگائیں اور سوائے اپنے

ان کا کوئی گواہ نہ ہو تو ان رحمت لگانے والوں میں سے
ایک کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ چار بار گواہی دے
کہ وہ سچوں میں سے ہے۔

اور پانچویں بار یہ کہ اللہ کی لعنت اس پر ہو اگر وہ جھوٹوں
میں سے ہے۔

اور عورت سے یہ بات سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ اللہ کی قسم
کے ساتھ چار بار گواہی دے کہ وہ (مرد) جھوٹوں میں سے ہے۔

اور پانچویں بار یہ کہ اللہ کا غضب اس پر ہو اگر وہ سچوں
میں سے ہے

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی
اور اللہ ربوع برحمت کرنے والا حکمت والا ہے

جو جھوٹ بنا لائے تم ہی میں سے ایک گروہ ہے
اسے اپنے لیے بُرا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے

ان میں سے ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے
گناہ کیا اور ان میں سے جس نے اس کا بڑا بوجھ اپنے اوپر لیا،

اس کے لیے بڑا دکھ ہے
جب تم نے اُسے سُننا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں

نے اپنے لوگوں پر نیک نطن کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح
جھوٹ ہے

کیوں نہ اس پر چار گواہ لائے ،
پس جب گواہ نہیں لائے ، تو اللہ کے نزدیک یہی

لَهُمْ شَهَادَةٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ
إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ
أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾

وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ
كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

وَ كَوْلَا فُضِّلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَ رَحِمْتُهُ
﴿١٠﴾ وَ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١١﴾

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ
مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ

هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ
مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَ الَّذِي تَوَلَّى

كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٢﴾
لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ

وَ الْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَ قَالُوا
هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾

لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهَادَةٍ
فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَذُوقُوا

جھوٹے ہیں

اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس بات کا تم نے چرچا کیا تھا، اس کی وجہ سے تمہیں بھاری عذاب پہنچا ہوتا۔

جب تم اپنی زبانوں سے اسے لیتے تھے اور اپنے مومنوں سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے آسان سمجھتے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بھاری بات تھی۔ اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہمیں یہ مناسب نہیں کہ اس کے متعلق باتیں کریں (اے اللہ تیری ذات پاک ہے یہ تو بڑا بہتان ہے۔

اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ایسی بات پھر کبھی نہ کرو، اگر تم مومن ہو۔

اور اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ تمہیں علم والا حکمت والا ہے۔

جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی (دکی باتیں) ان لوگوں میں پھیلیں جو ایمان لائے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

اور اگر اس کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور کہ اللہ مہربان رحم کرنے والا ہے۔

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو

عِنْدَ اللَّهِ هُمْ الْكَذِبُونَ ﴿۱۳﴾
 وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ
 فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا
 أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۴﴾
 إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنْتِكُمْ وَ تَقُولُونَ
 يَا فَأُوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ
 وَ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾
 وَ لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ
 لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا
 بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿۱۶﴾

يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا
 إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾

وَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ط وَ اللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۸﴾

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ
 فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۹﴾
 فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ
 وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۰﴾

وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ
 وَ أَنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ رَحِيمٌ ﴿۲۱﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
 الشَّيْطَانِ ط وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

شیطان) بے حیائی اور بُرائی کے لیے ہی کتاب ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو کوئی بھی تم میں سے کبھی پاک نہ ہوتا۔ لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے

اور تم میں سے بزرگی اور وسعت والے لوگ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ تیری بیویوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے اور چاہیں کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے اور اللہ حفاظت کرنیوالا رحم کرنے والا ہے جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے

فَرَأَيْتُمْ يَوْمَ يَأْتُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
مَا تَرَكَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ
اللَّهَ يُرِيدُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۷۱﴾
وَلَا يَأْتِلْ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ
أَنْ يُؤْتُوا أَوْلِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمُوا
وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ
اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۷۲﴾
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۷۳﴾

جس دن اُن کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اس دن اللہ انہیں ان کا ٹھیک بدلہ پورا پورا دے گا اور جان لیں گے کہ اللہ ہی حق (اور) کھولنے والا ہے پلید چیزیں پلید لوگوں کے لیے اور پلید لوگ پلید چیزوں کے لیے ہیں۔ اور اچھی چیزیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں اور اچھے لوگ اچھی چیزوں کے لیے ہیں، یہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷۴﴾
يَوْمَ يَدْعِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ
وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿۷۵﴾
الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ
لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ
الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ
مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ ﴿۷۶﴾

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوائے
(دوسرے) گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو
اور ان کے رہنے والوں پر سلام نہ کرو، یہ تمہارے لیے
بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو

پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو جب تک
کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ
جاؤ تو لوٹ جاؤ وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور
جو تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے

تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم غیر آباد گھروں میں داخل ہو جاؤ
جن میں تمہارا اسباب ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر
کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔

مومنوں کو کہہ دو اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی
شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں یہ ان کے لیے زیادہ
پاکیزہ ہے اللہ اس سے خبردار ہے جو وہ کرتے ہیں

اور مومن عورتوں کو کہہ دے اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور
اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر
نہ کریں سوائے اس کے جو (عادتاں) کھلا رہتا ہے اور چاہئے
کہ اپنی اور ہنسیاں اپنے سینوں پر ڈال لیں اور اپنی زینت
کو اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے
یا اپنے باپوں کے یا اپنے خاوندوں کے یا پون کے یا اپنے بیٹوں کے
یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے
بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے جن کے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا
غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَكُلِمُوا
عَلَىٰ أَهْلِهَا ط ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۳۱﴾

فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا
حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ
ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ط
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا
غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۳۳﴾
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ط ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿۳۴﴾

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ
بِخُرْمِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُنَّ أَوْ الشَّيْعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ
 مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِرِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَ
 بِأَسْرَجِلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ
 وَتُؤْبَدُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۱﴾

وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ
 مِنْ عِبَادِكُمْ وَآمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
 فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا
 حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
 يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ
 وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ

وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ
 أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
 بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۳﴾

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَ
 مَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ
 فِي مَوْعِظَةٍ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۴﴾

انکے داہنے ہاتھ مالک ہیں یا مردوں میں سے ایسے خادموں
 کے جو عورتوں کی حاجت نہیں رکھتے یا لڑکوں
 کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں
 اور اپنے پاؤں کو اس طرح زمین پر نہ ماریں کہ ان کے
 چھپے ہوئے زیور معلوم ہو جائیں اور اے مومنو سب کے سب
 اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کا میاب ہو جاؤ

اور جو تم میں سے مجرد ہیں ان کے نکاح کر دو اور اپنے غلاموں
 اور لونڈیوں کے بھی جو صلاحیت رکھتے ہوں اگر وہ محتاج ہوں گے
 تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا اور اللہ
 فراخی والا علم والا ہے

اور جو شادی (کا سامان) نہیں پاتے اپنے تئیں بچائے کہیں
 یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے اور جن کے
 تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں ان میں سے جو آزادی کی
 تحریر مانگیں تو انہیں لکھ دو اگر تم ان میں بھلائی جانتے ہو
 اور ان کو اللہ کے مال سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے

اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاکدامن رہنا چاہتی ہیں بدکاری پر
 مجبور نہ کرو، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہو اور جو کوئی
 انہیں مجبور کرے گا تو اللہ ان کے جبر کے بعد بخشنے والا
 رحم کرنے والا ہے

اور ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیتیں
 اتاریں اور کچھ ان لوگوں کے حالات جو تم سے پہلے گزر چکے
 ہیں اور متقیوں کے لیے نصیحت

اللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مَثَلُ
نُورِهٖ كَيْسُكُوْفٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ط الْيُصْبَاحُ
فِي زُجَاجَةٍ ط الزُّجَاجَةُ كَانْهَآ كُوْكَبٌ
دُرِّىٌّ ط يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ
زَيْتُوْنَةٍ ط لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ط
يَكَادُ زَيْتُهَآ يُضِيْءُ وَاَوْ كَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ
نَآرٌ ط نُورٌ عَلٰى نُورِهٖ ط يَهْدِي اللّٰهُ لِلنُّوْرِ
مَنْ يَشَآءُ ط وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ
لِلنَّاسِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٥٠﴾
فِي بُيُوْتٍ اٰذَنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذَكَّرَ
فِيْهَا اَسْمَةٌ ط يَسْتَمِعُ لَهٗ فِيْهَا بِالْعُدُوِّ
وَ الْاَصْحٰلِ ﴿٥١﴾

رِجَالٌ ط لَا تُلْهِهُمُ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ
عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِتِّآءِ
الرُّكُوْعِ ط يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ
الْقُلُوْبُ وَا الْاَبْصَارُ ﴿٥٢﴾

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ
مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ يَرْتَمِقُ مَنْ يَشَآءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٥٣﴾

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمٰ اَلْهُمُ كَسْرًا
بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهٗ الظَّمْآنُ مَآءً ط حَتّٰى

اللہ آسمانوں اور زمین کا روشن کرنے والا ہے اس کے
نور کی مثال (ایسی ہے) جیسے ایک طاق میں ایک چراغ ہے
چراغ ایک شیشہ میں ہے، شیشہ گویا کہ ایک
چمکتا ہوا تارہ ہے (چراغ) ایک بابرکت زیتون کے
درخت سے روشن ہو رہا ہے، جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی
قرب ہے کہ اس کا تیل روشنی دے، گوا سے آگ بھی نہ
چھوٹے، روشنی پر روشنی ہے اللہ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا
ہے ہدایت کرتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا
ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے

یہ نور ان گھروں میں ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ بلند کیے جائیں
اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے ان میں اس کی تسبیح صبح اور
شام کے وقتوں میں کرتے رہتے ہیں

(ایسے) لوگ جنھیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے
اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔
اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلٹ
جائیں گی

تاکہ اللہ انھیں اس کا بہترین بدلہ دے جو وہ کرتے ہیں اور اپنے
فضل سے انھیں زیادہ دے اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب
کے رزق دیتا ہے۔

اور جو کافر ہیں ان کے عمل چٹیل میدان میں چمکتی ریت کی طرح
ہیں، جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے پاس

آتا ہے اسے کچھ بھی نہیں پاتا اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے
سودہ اس کا حساب اُسے پورا پورا دے دیتا ہے اور اللہ جلد
حساب لینے والا ہے

یا جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے اس کے اوپر ایک لہر چڑھی
آ رہی ہے اس کے اوپر ایک اور لہر ہے اس کے اوپر بادل ہے،
اندھیرے میں جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں جب وہ اپنا
ہاتھ نکالتا ہے تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتا اور جسے اللہ روشنی نہ
دے اسے (کس بھی) روشنی نہیں ملتی

کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ (وہ ہے کہ) اس کی تسبیح کرتے ہیں
جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پر پھیلائے ہوئے
پرند بھی، ہر ایک اپنی دعا اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے اور
اللہ اسے جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں

اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور
اللہ کی طرف ہی انجام کار پھر کر جانا ہے۔

کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ بادل کو چلاتا ہے پھر اسے اکٹھا کرتا
ہے پھر اسے تہ تہ کرتا ہے پھر تو بارش کو اس کے اندر سے
نکلنے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ بادل سے جو پہاڑوں کی طرح
ہیں، اولے برساتا ہے، پھر وہ اُسے پہنچاتا ہے پچے
چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اُسے ہٹائے رکھتا ہے
قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دے

اللہ دن اور رات کو پھیرتا رہتا ہے اس میں آنکھوں والوں
کے لیے عبرت ہے۔

إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَ وَّجَدَ اللَّهُ
عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ ط وَاللَّهُ
سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾

أَوْ كَلَّمْتِ فِي بَحْرِ لَيْلِي يَغْشَاهُ مَوْجٌ
مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ط
ظَلَمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ
يَدَاهُ لَمْ يَكُنْ يَرِيهَا ط وَمَنْ لَّمْ
يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ﴿١٨﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْبِغُ لَكَ مِنْ رِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظَّالِمُ ظَلَمْتِ ط
كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ط
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿١٩﴾

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط
وَاللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿٢٠﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ
بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ
يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ
مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ ط
يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿٢١﴾

يَقْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٢٢﴾

اور اللہ نے ہر ایک جاندار کو پانی سے پیدا کیا، سو کوئی اُن میں سے وہ ہے جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے اور کوئی ان میں سے وہ ہے جو دو پاؤں پر چلتا ہے اور کوئی ان میں سے وہ ہے جو چار پاؤں پر چلتا ہے اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے

ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیتیں اتاری ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

اور کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے اور یہ لوگ مومن نہیں۔

اور جب انھیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا یا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ منہ پھیرنے والا ہوتا ہے اور اگر حق ان کی جانب ہو تو وہ اس کی طرف فرمانبرداری کرتے ہوئے دوڑے آتے ہیں

کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ شک میں ہیں یا ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ بے انصافی کریں گے۔ بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں

مومنوں کا جواب جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، یہی ہوتا ہے کہ کہیں ہم نے سُن لیا اور ہم فرمانبرداری کرتے ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْسِيْ عَلَىٰ بَطْنِيْهِۦ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْسِيْ عَلَىٰ رِجْلَيْ۟هِۦ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْسِيْ عَلَىٰ اَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۵۰﴾

لَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰیٰتٍ مُّبِيْنٰتٍ وَّ اللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۱﴾

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۗ وَمَا اُوْلٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۲﴾

وَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۵۳﴾

وَ اِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَآتُوْا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿۵۴﴾

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۵۵﴾

اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کا تقویٰ اختیار کرتا ہے تو یہی بامراد ہیں۔

اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں نہایت زور کی قسمیں کہ اگر تو انہیں حکم دے تو وہ نکل کھڑے ہوں گے کہہ قسمیں نہ کھاؤ دستور کے مطابق فرمانبرداری چاہیے اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔

کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر وہ پھر جائیں تو اس پر صرف وہ پہنچا دینا ہے جو اسکے ذمہ ڈالا گیا، اور تم پر وہ واجب ہے جو تمہارے ذمہ ڈالا گیا اور اس کی اطاعت کر گے

تو سیدھے پرہو گے اور رسول کے ذمے سوائے کھو لکر پہنچا دینے کے کچھ نہیں اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنا بیٹھگا،

جیسا انہیں خلیفہ بنایا جو ان سے پہلے تھے اور وہ ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مضبوطی سے قائم کر دیگا اور وہ ان کے لیے ان کے خوف کے بعد

بدل کر امن کی حالت (کر دیگا وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی نافرمان ہیں

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رسول کی اطاعت کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے

(یہ خیال نہ کر کہ جو کافر ہیں وہ زمین میں (ہمیں) ہرا دینے والے ہیں اور ان کا ٹھکانا آگ ہے

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۵۷﴾

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ آيَاتِهِمْ لِيُنْ أَمْرَهُمْ لِيَخْرُجُنَّ قُلُوبَهُمْ لِيَخْرُجُنَّ طَائِعَةً مَّعْرُوفَةً ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۸﴾

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۚ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغَةُ الْمُبِينُ ﴿۵۹﴾

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۶۰﴾

وَأَقْبِسُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۶۱﴾

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا لَهُمُ النَّاسُ وَ

وَمَا لَهُمُ النَّاسُ وَ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاذِنْكُمْ

اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ
الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ
قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ
ثِيَابَكُمْ مِنَ الظُّهْرِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ
الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ
طَوْفُؤْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۸﴾

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ
فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۹﴾

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ
نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ
يَسْتَغْفِنَنَّ خِيْرَ لِهِنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۶۰﴾
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ
حَرْجٌ وَلَا عَلَى السَّرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو جن کے تمھارے داہنے ہاتھ
مالک ہیں۔ اور وہ جو تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے، چاہیے
کہ تین دفعہ تم سے (اندر آنے کی) اجازت لے لیا کریں۔ نماز فجر
سے پہلے اور جب تم (گرمی کی) دوپہر کو
اپنے کپڑے اتار دیتے ہو اور نماز عشاء کے بعد
تین وقت تمھارے پردے کے ہیں۔ ان
کے بعد نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے۔
تم ایک دوسرے کے پاس پھرتے پھرتے ہی رہتے ہو،
اسی طرح اللہ تمھارے لیے حکم کھول کر بیان کرتا ہے اور
اللہ جاننے والا حکمت والا ہے

اور جب تم میں سے لڑکے بلوغ کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ وہ
(اندر آنے کی) اجازت لے لیا کریں، جس طرح وہ اجازت لیتے
رہے جو ان سے پہلے ہیں۔ اسی طرح اللہ اپنے حکم تمھارے لیے
کھول کر بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے

اور بڑی عمر کی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں ان پر کوئی گناہ
نہیں کہ وہ اپنے (اوپر کے) کپڑے اتار رکھیں، البتہ اس کے
برسنگار دکھاتی پھریں اور وہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں تو
ان کے لیے بہتر ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے
اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی تنگی
ہے، اور نہ بیمار پر کوئی تنگی ہے، اور نہ خود

تم پر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا وہ جس کی چابیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوست کے (گھر سے) تم پر کوئی گناہ نہیں کہ سب اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ پس جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کہا کرو، دعائے خیر اللہ کی طرف سے برکت دی گئی پاکیزہ۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے حکم کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو

مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جب کسی بات کے لیے جہاں جمع ہونے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، تو جاتے نہیں جب تک کہ اس سے اجازت نہ لیں وہ لوگ جو تمہارے سے اجازت لے لیتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پس جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تمہارے سے اجازت مانگیں تو تو ان میں سے جسے چاہے اجازت دے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کر لے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے

رسول کے بلانے کو آپس میں ایسا قرار نہ دو جیسا تمہارا ایک دوسرے کو بلانا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چھپ کر نکل جاتے ہیں، پس چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کے

أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَاسَلِمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۱﴾

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا ۚ وَالَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوا فَبَعْضُ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذِهِ ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ

حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ آزمائش میں نہ پڑیں یا انھیں دردناک عذاب نہ پہنچے
 سُن رکھو اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے
 وہ جانتا ہے جس (حال) پر تم ہو اور جس دن اس کی طرف
 لوٹائے جائیں گے تو وہ انھیں اس کی خبر دے گا جو وہ کرتے
 تھے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
 أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۲﴾
 أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ يَوْمَ
 تَرجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۳﴾

(۲۵) سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے
 وہ (ذات) بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان
 اتارا، تاکہ وہ تمام جہان کے لیے ڈرانے والا ہو
 وہ وہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہو
 اور اس نے کوئی بیٹیا نہیں بنایا اور نہ حکومت میں اس کا
 کوئی شریک ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کے لیے
 ایک اندازہ ٹھہرایا

اور (لوگوں نے) اس کے سوائے معبود بنا لیے ہیں جو کچھ پیدا
 نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور ان کو اپنے بڑے
 بھلے کا بھی اختیار نہیں اور نہ موت اور نہ زندگی اور نہ
 مر کر جی اٹھنا ان کے اختیار میں ہے۔

اور جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ تو نرا جھوٹ ہے جو اس نے گھڑ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى
 عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿۱﴾
 الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَم
 يَتَّخِذُ وَلَدًا ۗ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي
 الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ
 تَقْدِيرًا ﴿۲﴾

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا
 يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا
 يَسْلِكُونَ إِلَهُنَّ صِرَاطًا وَلَا نَفْعًا
 وَلَا يَنْبَلُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿۳﴾
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا آفَاكٌ

لیا ہے اور اس پر اسے اور لوگوں نے مدد دی ہے۔ یہ ظلم اور جھوٹ کے مرکب ہوئے اور کہتے ہیں پسلوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوائی ہیں سو وہ اس پر صبح اور شام پڑھی جاتی ہیں کہ ، اسے اُس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھیدوں کو جانتا ہے ، ہاں وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

اور کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے (جو) کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیوں اس کی طرف فرشتہ نہ اتارا گیا تو وہ اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا ہوتا۔

یا اس کی طرف خزانہ بھیجا جاتا یا اس کا باغ ہوتا ، جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم صرف ایک سحر والے آدمی کی پیروی کرتے ہو

دیکھتیرے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں سو وہ گمراہ ہو گئے ہیں پس رستہ نہیں پا سکتے۔

وہ رذات، بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تجھے اس سے بہتر باغ دے دے ، جن کے بیجے نہریں بہتی ہوں اور تجھے محل دے دے

بلکہ وہ مقرر گھڑی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم اس شخص کے لیے جو مقرر گھڑی کو جھٹلائے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے جب وہ انہیں دور کے مکان سے دیکھے گی تو وہ اس کے جوش و خروش کو سنیں گے۔

اَفْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُونَ ﴿۲۵﴾
فَقَدْ جَاءُوْهُ ظُلْمًا وَّ مُرُوْرًا ﴿۲۶﴾
وَقَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اَلْتَتَّبَعَهَا فِى
سُئْلِ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿۲۷﴾
قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى
السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ
غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿۲۸﴾

وَقَالُوْا مَا لِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ
الطَّعَامَ وَيَسْتَبِيْ فِى الْاَسْوَاقِ طَلُوْرًا
اُنزِلَ اِلَيْهٖ مَلَكٌ فَيَكُوْنُ مَعَهٗ نَذِيْرًا ﴿۲۹﴾
اَوْ يُلْقٰى اِلَيْهٖ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ
يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُوْنَ اِنْ
تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿۳۰﴾

اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا
فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿۳۱﴾

تَبٰرَكَ الَّذِىْ اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا
مِّنْ ذٰلِكَ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ وَاَيَجْعَلُ لَكَ قُصُوْرًا ﴿۳۲﴾

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ
كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴿۳۳﴾

اِذَا سَأَلْتَهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْبٍ سَمِعُوْا لَهَا
تَعِيْظًا وَّاَسْرًا فِیْرًا ﴿۳۴﴾

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا
مَقْرَنَيْنِ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۱۶

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَاذْعُوا
ثُبُورًا كَثِيرًا ۱۷

قُلْ أَذَلِكْ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي
وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ط كَأَنْتَ لَهُمْ
جَزَاءٌ وَ مَصِيرًا ۱۸

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ط كَأَنْ
عَلَى سَرِّكَ وَعَدًّا مَسْعُورًا ۱۹

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ
دُونِ اللَّهِ قِيْقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ
عِبَادِي هُوَ لَآءِ ءَأَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۲۰

قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُنْبِئُنَا أَنْ نَتَّخِذَ
مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَ

أَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَ كَانُوا قَوْمًا بُورًا ۲۱

فَقَدْ كَذَّبُوا كَمَا كَذَّبُوا لَوْلَا أَنْ لَمْ يَأْتِ
صَرَفًا وَ لَا نَصْرًا ؕ وَ مَنْ يَظْلِمْ مِّنْكُمْ

نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۲۲

وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُونَ
فِي الْأَسْوَاقِ ط وَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ
فِتْنَةً ط أَنْصِبُرُونَ ؕ وَ كَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۲۳

اور جب وہ اس کی تنگ جگہ میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے
تو وہاں ہلاکت کو پکاریں گے

آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو اور بہت سی ہلاکتوں
کو پکارو

کہہ کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشگی کا باغ جس کا منتقیوں کو
وعدہ دیا جاتا ہے۔ وہ ان کے لیے بدلہ اور
آخری ٹھکانا ہوگا۔

ان کے لیے جو چاہیں گے اس میں ہوگا (اسی میں) رہیں گے یہ
تیرے رب کے ذمے مانگے جانے کے قابل وعدہ ہے

اور جس دن وہ انھیں اکٹھا کرے گا اور ان کو (بھی) جس کی وہ اللہ
کے سوائے بندگی کرتے ہیں، پھر کے گا کیا تم نے میرے ان بندوں
کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود رستہ سے بہک گئے۔

کہیں گے تو پاک ہے ہمارے لیے یہ نشانیاں نہ تھا کہ تیرے سوائے
اور کار ساز بناتے لیکن تو نے انھیں اور ان کے باپ دادوں کو سامان
دیا یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے اور وہ ہلاک ہونے والی قوم تھے

سو انھوں نے تم کو اس میں جھٹلایا جو تم کہتے ہو سو وہ تم (عذاب) کو،
پھر سکو گے اور نہ مدد (پاسکو) گے، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے ہم

اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔

اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ یقیناً گھانا
کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔

اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا
ذریعہ بنایا ہے کیا تم صبر کرو گے اور تیرا رب دیکھنے والا ہے